



Press Release
February 24, 2017
For immediate release

Islamic Finance Centre successfully disbursed finances of Rs14 million

ISLAMABAD, February 24, 2017: The recently established Islamic Finance Center has disbursed finances worth Rs14.00 million to common people in first two months. The financing was made under Ijarah mode of Islamic financing for purchase of motorcycles and other products.

The SECP Chairman Zafar Hijazi had inaugurated the Islamic financing facility center in Rawalpindi on December last year.

The initiative taken by the Modaraba sector on the patronage of Chairman SECP for providing Islamic financial products to the masses. Initially four modarabas, ie, Allied Rental Modaraba, First Habib Modaraba, Orix Modaraba and Trust Modaraba has opened their offices in the this Islamic finance center.

The establishment of Modaraba based Islamic finance center envisioned by the Chairman SECP to promote legal modes of financing and to curb the illegal and unlicensed informal lending practices throughout the country.

The Islamic Finance Center received overwhelming response and common people are approaching the Center to avail Islamic finance for purchase of motorcycles to cater their conveyance needs. The Modarabas in this center are providing microfinance to the customers at cheaper rate ranging in between 20 to 25 percent, as against the prevalent market rates of 40 to 45 percent.

The SECP has shown its firm commitment to provide all the support to other Modarabas, which have plans to open similar Centers in other parts of the country for the benefits of the common people. This will increase the outreach of Modarabas to the smaller cities and towns for greater financial inclusion of the underserved sectors.

اسلامک فنانس سینٹر نے دو ماہ میں 14 ملین روپے کی فنانسنگ فراہم کی

اسلام آباد (۱۴ فروری) حال میں میں راولپنڈی میں قائم کئے جانے والے اسلامک فنانس سینٹر نے صرف دو میں کے قلیل عرصے میں عوام کو ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کی فنانسنگ فراہم کی۔ موٹر سائیکل اور دیگر اشیا کے لئے مکمل طور پر اسلامک فنانسنگ کے اجرا ماڈل کے تحت کی گئی۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ظفر حجازی نے گزشتہ برس دسمبر میں اس اسلامی فنانس مرکز کا افتتاح کیا تھا۔ عوام الناس کو سستی اور سود سے پاک فنانسنگ فراہم کرنے کے لئے مضاربہ سیکٹر کی جانب سے قائم کیا گیا۔ ابتدا میں اس مرکز میں چار مضاربہ کمپنیوں بشمول الائیڈ ریئلٹل مضاربہ، فرسٹ حبیب مضاربہ، اور یکس مضاربہ اور ٹرسٹ مضاربہ نے اپنے دفاتر قائم کئے ہیں۔

اسلامی فنانس مرکز چیئرمین ایس ای سی پی ظفر حجازی کی تجویز اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جس کا مقصد عوام کو سستی فنانسنگ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی فنانسنگ اور سود کے غیر قانونی کام کو روکنا ہے۔ عوام کی جانب سے اسلامی فنانس مرکز کے منصوبے کو سراہا گیا اور عوام نے اسلامی فنانسنگ کے تحت سرمایہ کے حصول کے لئے بڑی تعداد میں رجوع کیا۔ اسلامی فنانس مرکز دیگر عمومی ذرائع کے مقابلے میں کم شرح پر سرمایہ فراہم کر رہا ہے۔

ایس ای سی پی نے تمام مضاربہ کمپنیوں موملک کے دیگر شہروں میں بھی ایسے مراکز قائم کرنے کے لئے مکمل تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی فنانس کے مراکز قائم ہونے سے عام شہریوں کو سرمائے تک رسائی آسان ہو جائے گی جبکہ غیر قانونی فنانسنگ اک راستہ بھی رک جائے گا۔

